

بی سی کووڈ-19 کے مدافعتی منصوبہ کے دوسرے مرحلے کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔

B.C.'s COVID-19 immunization plan is expanding.

کووڈ-19 کے خلاف ہمارے بزرگان کی مدافعت بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ اپنی کمیونٹی کے بزرگان کے درمیان یہ پیغام پھیلا دیں کہ جلد ہی ان کو مدعو کیا جائے گا کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسین کی پہلی خوراک لگوانے کے لئے بکنگ کرا لیں۔

لوگوں کو بکنگ کے لئے ان کی اس عمر کے مطابق مدعو کیا جائے گا جس کو وہ 2021 میں پہنچنے والے ہیں۔ (مثال کے طور پر اگر آپ اس سال کے کسی بھی وقت 90 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہیں تو آپ کو 90 سال کے عمر کے گروہ کے ساتھ بکنگ کے لئے مدعو کیا جائے گا اس طرح باقی سب کو بھی۔)

بکنگ فون کے ذریعے یا آن لائن بھی کرائی جا سکتی ہے جو 8 مارچ سے شروع ہو رہی ہے۔ (براہ مہربانی اس تاریخ سے پہلے کال یا بکنگ کرنے کی کوشش نہ کریں)۔

فریزر ہیلتھ کووڈ-19 قوت مدافعت کے لئے بکنگ فون لائن: 1-855-755-2455

اگر آپ فریزر ہیلتھ میں رہتے ہیں*، تو آپ آن لائن بکنگ بھی Fraserhealth.ca/vaccinebooking پر کرا سکتے ہیں۔

براہ مہربانی یہ نوٹ فرمالمیں: یہ خدمات ویکسین کی پہلی خوراک کے اپائنٹمنٹ کی بکنگ کے لئے ہیں اور صرف فریزر ہیلتھ کے رہائشی 80 سال یا زیادہ عمر کے افراد اور انڈیجینیٹس (فرسٹ نیشن، میٹس، انیوٹ) عمر 65 سال یا زیادہ کے لئے اس وقت مہیا ہیں۔

*فریزر ہیلتھ کمیونٹی کے علاقے میں، ایٹسفورڈ، آگاسیز، برنی، چلی ویک، کوکئیٹلام، ڈیلٹا، ہوپ، لینگل، میپل ریج، مشن، نیو ویسٹمنسٹر، پٹ میڈوز، پورٹ کوکئیٹلام، پورٹ موڈی، سرے اور وائیٹ راک شامل ہیں۔

کووڈ-19 مدافعتی قوت کے کلینک برائے مقامی باشندگان

Indigenous COVID-19 immunization clinics

فرسٹ نیشن ہیلتھ اتھارٹی، میٹس نیشن برٹش کولمبیا، فرینڈشپ سینٹرز اور دوسرے کمیونٹی کے ادارہ جات کے اشتراک سے، کووڈ-19 کے مدافعتی قوت کے کلینک ثقافتی امداد کے ساتھ ان لوگوں کے لئے میسر ہیں جو خود کو بحیثیت انڈیجینیٹس (فرسٹ نیشن، میٹس، انیوٹ) شناخت کرتے ہیں 65 سال یا زیادہ عمر کے افراد اور انڈیجینیٹس عمر رسیدہ ۔

اپنی کووڈ-19 کی ویکسین (ٹیکہ) کی اپائنٹمنٹ بک کرانا

Booking your COVID-19 vaccine appointment

فون لائن پر کال کرنے سے پہلے برائے مہربانی اپنے پاس رکھیں:

- کاغذ اور قلم
- اپنا ذاتی ہیلتھ نمبر
- مکمل نام
- تاریخ پیدائش
- پوسٹل کوڈ

ایک فون نمبر جس پر آپ ٹیکسٹ میسیج وصول کر سکیں یا ایک ای میل ایڈریس جسے آپ یا آپ کی فیملی اکثر چیک کرتی ہے، اس صورت میں کہ اگر ہمیں آپ کو کوئی ضروری معلومات بھیجی ہو تو۔

ہمارے کال سینٹر ایجنٹ کبھی بھی آپ کی مالی معلومات بشمول آپ کی کریڈٹ کارڈ کی معلومات کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔

اگر ویکسین (ٹیکہ) کے بارے میں آپ کے کوئی طبی سوالات ہیں تو براہ مہربانی بات کریں اپنے فیملی فیزیشن، نرس پریکٹیشنر سے یا اپنے فیملی فیزیشن، نرس پریکٹیشنر سے یا فریزر ہیلتھ ورچوئل کئیر ٹیم کو کال کریں 1-800-314-0999 اس نمبر پر صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک ہفتے کے سات دن یا ان اوقات کے علاوہ 1-1-8 پر کال کریں۔

اگر کووڈ-19 کے بارے میں آپ کے کوئی عام سوالات ہیں تو برائے مہربانی (1-888-268-4319) COVID19-888-1 پر کال کریں یا www.bccdc.ca/covid19 پر جا کر دیکھیں۔

آپ کو اپنی اپائنٹمنٹ کی تیاری کرنے کے لئے کیا کرنے کی ضرورت ہے:

- کووڈ-19 ویکسین کی ہیلتھ فائل کا مطالعہ کریں:
- ہمراہ لائیں اپنا بی سی سروسز کا کارڈ/ ذاتی ہیلتھ نمبر اور تصویری شناخت، اگر آپ کے پاس موجود ہے۔
- ماسک پہنیں۔ اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو ہم آپ کو مہیا کر سکتے ہیں۔

آپ کی اپائنٹمنٹ میں 20 سے 25 منٹ لگیں گے۔ برائے مہربانی تشریف نہ لائیں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں بیمار، کووڈ-19 کی علامات (مثلاً کھانسی، سانس میں دشواری، بخار، سردی لگنا، سر درد)، یا اگر آپ کو خود کو علیحدہ رکھنے کا کہا گیا ہے۔

ہماری کمیونٹی میں قوت مدافعت بڑھانے میں شمولیت اور اپنا کردار ادا کرنے کے لئے آپ کا شکریہ!

Thank you for doing your part to contribute to COVID-19 immunity in our community!

کووڈ-19 کی ویکسین جسے ہیلتھ کینیڈا نے منظور کیا ہے بالکل محفوظ، مؤثر اور زندگیاں بچانے والی ہے۔ ویکسینز (ٹیکہ)، ویکسینز لگوانے والے افراد کو فائدہ دینے کے علاوہ بھی کام کرتی ہیں۔ وہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ کمیونٹی میں جتنا لوگ بچاؤ اور قوت مدافعت حاصل کریں گے اتنا ہی کووڈ-19 کا پھیلاؤ مشکل ہوگا۔

یاد دہانی: صوبائی ہیلتھ آفیسر (پی ایچ او) کے آرڈر اور ہدایات ہر شخص پر لاگو رہیں گے قطع نظر اس کے کہ وہ ویکسین (ٹیکہ) لگوا چکے ہوں۔ براہ مہربانی کووڈ-19 کے حفاظتی روئے جاری رکھیں، جیسا کہ اجتماعات سے گریز، عوامی اندرونی مقامات پر ماسک پہننا، اپنے ہاتھوں کو اکثر دھونا، اپنی کہنی میں کھانسنے یا چھینکنا اور دوسروں سے دو میٹر کا فاصلہ رکھنا۔

کووڈ-19 کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بی سی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول (بی سی سی ڈی سی) ہے۔

کب اور کیسے دوسرے گروہ مدافعت حاصل کرنے کے لئے رجسٹر کرانے کے قابل ہوں گے؟

When and how will other groups be able to register to get immunized?

اضافی گروہوں کی رجسٹریشن کے عمل کی تفصیلات آنے والے ہفتوں میں میسر ہوں گی۔ مزید معلومات کے لئے صوبہ برٹش کولمبیا کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں۔

مجھے ویکسین (ٹیکہ) کیوں لگوانا چاہئے؟

Why should I get the vaccine?

کمیونٹی (اجتماعی) مدافعت حاصل کی جا سکتی ہے اگر بی سی کے لوگوں کی اکثریت کووڈ-19 کے خلاف مدافعت حاصل کر لے۔ آپ اپنے گھر والوں اور پوری کمیونٹی کو وائرس سے بچا کر زندگیاں بچانے میں مدد کر رہے ہیں۔

ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بچاؤ کریں ان اقدامات کے ذریعے جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس کی منتقلی سے بچانے میں کارگر ہیں، جیسا کہ اپنے ہاتھ دھونا، بیمار ہونے کی صورت میں گھر پر رہنا، اجنبی لوگوں سے فاصلہ رکھنا، اور عوامی اندرونی جگہوں پر ماسک پہننا۔

کووڈ-19 کی ویکسین (ٹیکہ) برٹش کولمبیا میں ہر کسی کو مفت فراہم کیا جائے گا۔

ویکسین (ٹیکہ) کے بارے میں عام معلومات کے لئے gov.bc.ca/covidvaccine or bccdc.ca/covid19 پر جا کر دیکھیں۔